



سوال

(343) طہارت کے بعد ٹیالا یا پیلا پانی کچھ نہیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میرا معمول پچھ دن کا ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ معمول سات دن کا بھی ہو جاتا ہے۔ جس میں طہارت کے مشاہدہ کے بعد غسل کر لیتی ہوں۔ لیکن ایک مکمل دن کی طہارت کے بعد ٹیالے سے پانی کا رنگ دیکھتی ہوں جس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ لہذا میں حیران ہو جاتی ہوں کہ نماز روزہ اور اپنے خالق کی عبادت سے متعلق دیگر امور ادا کروں یا نہ کروں؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیے کہ میں اس حالت میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب سے نوازے گا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر تم کو اپنے معمول کے ایام کا علم ہے تو اتنے دن شمار کرو۔ اور ان کے بعد نماز اور روزہ شروع کر دو۔ اور طہارت کے بعد نظر آنے والے ٹیالے یا پیلے رنگ کے مادہ کے اخراج کی وجہ سے نماز اور عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ طہارت کی ایک نمایاں علامت ہے۔ جسے عورتیں خوب پہچانتی ہیں۔ اور اسے خالص سفیدی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جب عورت اسے دیکھ لے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مدت حیض ختم اور مدت طہارت شروع ہو گئی ہے لہذا اس وقت غسل کر کے نماز روزہ اور تلاوت قرآن جیسی عبادت کو بحالانا فرض ہو جاتا ہے۔ (شیخ ابن جبرین)

حدا ما عنہم والنداء علم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ: جلد 1

صفحہ نمبر 325

محدث فتویٰ